

# Jos

## Chapter 16

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 **וַיָּצֵא** **הַגּוֹזֵל** **לְבִנֵי** **יוֹסֵף** **מִיִּרְדֵּן** **יְרִיחוֹ** **לְמִי** **יְרִיחוֹ** **מִזְרְחָה** **הַמִּדְבָּר**  
اور-نکلا **قرعہ** **بنی** **یوسف-کے-لیے** **یردن-سے** **یریحو** **پانیوں-کو** **یریحو-کے** **مشرق-کی-طرف** **بیابان**  
H1486 H3318 H3130 H3383 H3405 H4325 H3405 H4217

**عَلָה** **מִירְיָחוֹ** **בְּהָר** **בֵּית-אֵל:**  
چڑھتی-بوئی **یریحو-سے** **پہاڑ-میں** **بیت-ایل-کو**  
H5927 H3405 H2022 H1008

پاس کے چشموں میں مشرق کے شہر ہوئی، شروع سے یردن دریائے قریب کے یریحو سرحد کی اُس گیا۔ کہا مقرر علاقہ کا اولاد کی یوسف سے ڈالنے قرعہ پہنچی۔ تک علاقے پہاڑی کے ایل بیت چلتی چلتی سے میں ریگستان اور گزری سے

2 **וַיָּצֵא** **מִבֵּית-אֵל** **לְוִזָּה** **וְעֶבֶר** **אֶל-** **נְבוֹלָ** **הָאֲרָכִי** **עֶטְרוֹת:**  
اور-نکلی **بیت-ایل-سے** **لوزہ-کو** **اور-گزری** **کی-طرف** **حد** **ارکیوں-کی** **عطروت**  
H3318 H1008 H3870 H0413 H1366 H0757 H5852

پہنچی۔ عطارات میں علاقے کے ارکیوں وہ کر نکل آگے سے ایل بیت یعنی لوز

3 **וַיְרַד-** **אֶל-** **נְבוֹלָ** **הַיְפֹלְטִי** **עַד** **נְבוֹלָ** **בֵּית-חֹרֶן** **תַּחְתָּיו** **וְעַד-** **נֶזֶר**  
اور-اُترتی **مغرب-کی-طرف** **کی-طرف** **حد** **یفلیطیوں-کی** **تک** **حد** **بیت-حورون** **نچلے** **اور-تک** **جزر**  
H3381 H3220 H0413 H1366 H3311 H5704 H1366 H1032 H8481 H5704 H1507

**וְהָיוּ** **אֶל-** **נְבוֹלָ** **הַיְפֹלְטִי** **עַד** **נְבוֹלָ** **בֵּית-חֹרֶן** **תַּחְתָּיו** **וְעַד-** **נֶזֶר**  
اور-تھا **نکاس-اُس-کا** **سمندر-پر**  
H1961 H8444 H3220 H8444

پر سمندر پیچھے کے جزر کر گزر سے میں حورون بیت نشیبی وہ جہاں ہوئی داخل میں علاقے کے یفلیطیوں اُترتی اُترتی طرف کی مغرب وہ سے وہاں ہوئی۔ ختم

4 **וַיִּנְחְלוּ** **בְּנֵי-** **יוֹסֵף** **מְנַשֶּׁה** **וְאֶפְרַיִם:**  
اور-میراث-پائی **بنی** **یوسف-نے** **منسی** **اور-افرائیم**  
H5157 H3130 H4519 H0669

گیا۔ دیا میں وراثت کو قبیلوں کے منسی اور افرائیم اولاد کی یوسف جو تھی سرحد جنوبی کی علاقے اُس یہ

5 **וַיְהִי** **נְבוֹלָ** **בְּנֵי-** **אֶפְרַיִם** **לְמִשְׁפַּחְתָּם** **וַיְהִי** **נְבוֹלָ** **נַחֲלָתָם** **מִזְרְחָה**  
اور-ہوئی **حد** **بنی** **افرائیم-کی** **خاندانوں-کے-مطابق** **اور-ہوئی** **حد** **میراث-اُن-کی** **مشرق-کی-طرف**  
H1961 H1366 H0669 H4940 H1961 H1366 H5159 H4217

**אֶתְרַעְטְרוֹת** **עַד-** **חֹרֶן** **עֶלְיוֹן:**  
**عطروت-ادار** **تک** **بیت-حورون** **اوپر-والے**  
H5853 H5704 H1032

کرو سے حورون بیت بلائی اور اُدار عطارات سرحد جنوبی کی اُس گیا: مل علاقہ یہ مطابق کے کنبوں کے اُس کو قبیلے کے افرائیم

6 **וַיָּצֵא** **הַגּוֹזֵל** **הַיְמָנָה** **הַמְכַמְתָּת** **מִצְפּוֹן** **וְנֹסֵב** **הַגּוֹזֵל** **מִזְרְחָה** **שְׁלֹחַתְאֵנַת**  
اور-نکلی **حد** **سمندر-کی-طرف** **مکמתات** **شمال-سے** **اور-مڑی** **حد** **مشرق-کی-طرف** **تعت-شیلہ-کو**  
H3318 H1366 H3220 H4366 H6828 H5437 H1366 H4217 H8387

**וְעֶבֶר** **אוֹתוֹ** **מִמְזַרְחָה** **יְנֹחָה:**  
اور-گزری **اُسے** **مشرق-سے** **یانوحہ-کو**  
H0853 H4217

کی شمال وہ سے وہاں پہنچی۔ تک تَفُوح چلتی چلتی ساتھ کے ندی قاناہ اور ہوئی شروع سے سمندر میں مغرب سرحد شمالی کی اُس ہوئی۔ ختم پر سمندر سے یانوح میں شمال سرحد مشرقی پہنچی۔ یانوح کر بو سے سیلا تانت وہ پھر لگی۔ چلنے طرف کی مشرق دوبارہ کر پہنچ تک مکمتاہ اور مُڑی طرف بعد کے اِس اور نعرہ چلتی چلتی طرف کی جنوب ساتھ کے کنارے پھر اور اُتری تک کنارے مغربی کے یردن دریائے کر بو سے عطارات اور ہوئی شروع تھیں۔ سرحدیں کی کنبوں کے اُس اور افرائیم یہی ہوئی۔ ختم پر یردن دریائے وہ وہاں پہنچی۔ یریحو

7	וִירָד	מִנְזוּחָה	עֶטְרוֹת	בְּנֵי־נֶחֱדָה	וּפְנֵל	בְּרִיחוֹ	וַיָּצֵא	הַיַּרְדֵּן:
	اور-اُتری	یانوح-سے	عطروت	اور-نعرہ-کو	اور-پہنچی	یریحو-کو	اور-نکلی	یردن-پر
	<a href="#">H3381</a>		<a href="#">H5852</a>	<a href="#">H6293</a>	<a href="#">H3405</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3383</a>	

کی شمال وہ سے وہاں پہنچی۔ تک تَفُوح چلتی چلتی ساتھ کے ندی قاناہ اور ہوئی شروع سے سمندر میں مغرب سرحد شمالی کی اُس ہوئی۔ ختم پر سمندر سے یانوح میں شمال سرحد مشرقی پہنچی۔ یانوح کر بو سے سیلا تانت وہ پھر لگی۔ چلنے طرف کی مشرق دوبارہ کر پہنچ تک مکمتاہ اور مُڑی طرف بعد کے اِس اور نعرہ چلتی چلتی طرف کی جنوب ساتھ کے کنارے پھر اور اُتری تک کنارے مغربی کے یردن دریائے کر بو سے عطارات اور ہوئی شروع تھیں۔ سرحدیں کی کنبوں کے اُس اور افرائیم یہی ہوئی۔ ختم پر یردن دریائے وہ وہاں پہنچی۔ یریحو

8	מִתְפּוֹחַ	יֵלָךְ	הַגְּבּוּל	לְמִזְבְּחֵהֶם:	גְּבּוּל	קָנָה	וְהָיוּ	תְּצַאֲתֵינוּ	הַיַּמָּה	זָאת	נַחֲלֹת
	تفوح-سے	جاتی-ے	حد	مغرب-کی-طرف	نالہ	قانہ-کا	اور-تھا	نکاس-اُس-کا	سمندر-پر	یہ	میراث
	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H1366</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H7071</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8444</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H5159</a>	

مٹھا	بنی	افرائیم-کے	خاندانوں-کے-مطابق
<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H4940</a>	

کی شمال وہ سے وہاں پہنچی۔ تک تَفُوح چلتی چلتی ساتھ کے ندی قاناہ اور ہوئی شروع سے سمندر میں مغرب سرحد شمالی کی اُس ہوئی۔ ختم پر سمندر سے یانوح میں شمال سرحد مشرقی پہنچی۔ یانوح کر بو سے سیلا تانت وہ پھر لگی۔ چلنے طرف کی مشرق دوبارہ کر پہنچ تک مکمتاہ اور مُڑی طرف بعد کے اِس اور نعرہ چلتی چلتی طرف کی جنوب ساتھ کے کنارے پھر اور اُتری تک کنارے مغربی کے یردن دریائے کر بو سے عطارات اور ہوئی شروع تھیں۔ سرحدیں کی کنبوں کے اُس اور افرائیم یہی ہوئی۔ ختم پر یردن دریائے وہ وہاں پہنچی۔ یریحو

9	וְהָעָרִים	הַמְגְבְּלוֹת	לְבָנֵי	אֶפְרַיִם	בְּתוֹךְ	נַחֲלֹת	בְּנֵי-	מְנַשֶּׁה	כָּל-	הָעָרִים
	اور-شہر	علیحده-کیے-گئے	بنی	افرائیم-کے-لیے	درمیان	میراث	بنی	منسی-کے	سارے	شہر
	<a href="#">H3995</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H3605</a>			

وְחֶצְרֵיהֶן:  
اور-گاؤں-اُن-کے

تھیں۔ میں علاقے کے منسی جو گئیں کی مقرر لئے کے افرائیم آبادیاں کی نواح و گرد کے اُن اور شہر کچھ علاوہ کے اِس

10	וְלֹא	הוֹרִישׁוּ	אֶת-	הַכְּנַעֲנִי	הַיּוֹשֵׁב	בְּיָזְר	וַיֵּשֶׁב	הַכְּנַעֲנִי	בְּקֶרֶב	אֶפְרַיִם	עַד-
	اور-نہیں	نکالا	کو	کنعانیوں	جو-رہتے-تھے	جزر-میں	اور-بسا-ربا	کنعانی	درمیان	افرائیم-کے	تک
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H1507</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H5704</a>	

הַיּוֹם	הַיּוֹם	וַיְהִי	לְמִס-	עָבַד:	פ
دن	آج-کے	اور-ہوا	بیگار-میں	کام-کرنے-والا	—
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4522</a>	<a href="#">H5647</a>	

بے-پڑتا کرنا کام میں بیگار اُسے البتہ ہے، رہتی وہاں تک آج اولاد کی اُن لئے اِس نکالا۔ نہ کو کنعانیوں آباد میں جزر نے مردوں کے افرائیم